

# آداب المجلس

اسلام انے ایمان نوشعار دل انے بدن پر پہننے نے مجلس ما حاضر

تھائی

آدب الدین قبل

الدین

ذاکر حسین وعظ مبارک نی تلقی خاموش رہی نے کان ڈھالی نے

کرے۔ وعظ ناوقت ماہرگر ”کلام“ نی جستجو مانرھے۔ یر تیاری پہلا تھی چکی ہوئی۔

اگر مولیٰ تھورو وقفہ فرماوے۔ تروقت کوئی نے ایم لائق نتھی کر فوراً مرثیہ اٹھاوی لے۔ اہنا

سی مؤمنین نو۔ حضور اعلیٰ <sup>طع</sup> جربیان فرماوے چھے یا غم کراوے چھے تر نو link ٹوٹی

جائی۔ ایم گنجائش چھے۔ لوگوں نو دھیان غم نا بیان سی یا۔ جربیان فرماوتا ہوئی تر سی

مرثیہ نی طرف چلو جائی

ذاکر حسین ہرگز کوئی اھو وعمل نہ کرے جہ سبب سی ماتم نو جوش ٹوٹی جائی۔ بلکہ

ماتم انے غم نے زیادہ اہمارے ایم ہمیشہ اہنی سعی ہوئی۔



جہ وقت حضرت امامیہ ما پڑھوانو موقع ملے تو خضوع خشوع ہوئی کوئی گھنڈ نہ ہوئی  
پارٹی نا Tipper اٹھایا لے پھی اٹھاوے تاکہ الگ بھی نہ تھوئی انے ادب نو خیال رہے

مولانا المنعم طع نی عظمة نا خاطر۔ مجلس نی اداب نی مراعات تھائی تر خاطر۔ کون پڑھے  
کیوارے پڑھے انے سون پڑھے اھنو نظام لجنہ مقرر کرے چھے۔ ذاکر حسین۔ یر نظام نی تطبیق  
واسطے جر coordinators چھے تر نی وات مانے انے لجنہ نا نظام مطابق هر عمل کرے۔

تمام	اداب المجلس – Check List
	میں اداب المجلس نی مراعاة مراکھون چھون؟
	وعظ نی مکمل تلقي کرون چھون؟
	مراثی نی تلاوة ما لجنہ نا امر نا تحت اتر و چھون؟



# آوازني صحت

اپنا کان اپنا معلم چھي۔ صحيح سنسو تو صحيح بولسو:

چيخو وهر گز نه جوئيے۔ چيخواني کوئي نه عاده هوئي تو ير آواز نه هميشه نو نقصان کري دے چھي

مرچا والو۔ تيل والو جن نه جمو۔ راتے گھنو late نه جمو۔ جر سبب سي جن گھني وار پيٹ ماسي منه ما آوے انے vocal chords نه تر سبب سي نقصان تھئي جائی

اکثر اپني عاده مرھے چھي که گلو صاف کرئيے چھي، تر عمل vocal folds (جر muscles سي آواز نه چھي) اهنے گھنو نقصان کرے چھي۔ تر نا عوض ما پاني پيوو ضروري چھي۔ کلام پڑھتي وقت درميان ما اگر۔ ايم تھائي که هوے گلو صاف کروو چھي تر وقت دھيرے سي رال نه گلے تو فرق پڑھي سکے چھي



بيٺو تو سيد ها بيٺو- اهوي شاڪلة سي نر بيٺو ڪر ٿمارو سينو دبائي جائي- آوانر دبائي  
جائي -

وات ڪرتي وقت خيال ڪرا ڪهو ڪر لمبان عرصه ٿڪ وات ڪرو اسبب آوانر نه نقصان ٿهائي  
چھ- عشره مبارڪه ماين ضروري واتويا gossip نه بلڪل avoid ڪرے-

Whisper ڪرو اسي آوانر نه سگلا ڪر تا زياده نقصان ٿهائي چھ-

گھنا زور نو آوانر ما حول ما هوئي تر وقت ٿمارو آوانر بيجانے سنائي تر واسطے اونچونر  
ڪرو جوئيے-نتيجهه ما ايم ٿهائي ڪر- ٿمارو آوانر گھنو زياده اونچو ٿهئي جاسے انے نقصان  
بھي گھنو ڪرے-

اڪثر مھوئا اجتماع ما mic بغير ٻڙھو وھيں-

چائي ڪافي انے vocal chords ، cola نه سُڪھاوي دے چھ تر نه يا تو پيو و گھنو  
ڪم ڪري ديو- يا اھنا سا ٿھ پاني گھنو پيو و ضروري چھ ، هر چائي انے ڪافي نا پيلا نا  
عوض ما ايك گلاس پاني پيو و ضروري چھ- وعظ نا درميان هرگز پاني نر پي- مگر  
پھلے سي پاني برابر پيد وھوئي-



هر دن كم انر كم ۸ سي ۱۰ گلاس پاني نا پيو ضروري هچي تا كر vocal chords  
ما گيلاس رهے۔ وهانر گهنو friction تهائي هچي۔ انے تر سبب گهننا جلدي سكهائي  
جائي هچي ، گهنون زياده friction هوئي انے پاني نر پيے تونر خم تهانا  
chances هچي۔

زياده ٺهندو پيو اسي بهي اوانر پراثر پري سكهے هچي

تمارا پهنچ نا بهار هوئي اهو اوانرو نر نکالوا۔ جر اوانر تمنے گهنو جارو لاگتو هوئي يا  
گهنو ٻتلو لاگتو هوئي ير نر نکالوو

بدن نا بيجا انگواؤنے جيم rest ايو چهو تيم اوانر نر بهي rest ايو ٻو جوئيے ،

رات ما گرم سيك گردن پر موکي سکا ئي هچي

جتونے عشره مبارکه نا دوران وعظ ما مجلس ني خدمه واسطے ٻ منھ کھلے باقي  
استجمام لانر ما کروو جوئيے



## آوانرنی صحتہ Check List

	میں پڑھتی وقت چیخون چھون؟
	مرچا والویا تیل والوجمن جموانی عادتہ چھ؟
	راتے late جموانی عادتہ چھ؟
	گلاما خراش ہوئی تو آوانر کری نے گلو صاف کروانی عادتہ چھ؟
	مارا body posture نو ہمیشہ صحیح رہے چھ؟
	بیٹھون چھون تو سید ہو بیٹھون چھون؟
	چائی یا کافی زیادہ تو نہیں پیتو؟
	ہر روز ۸ سی ۱۰ گلاس سادو صاف پانی پیو چھون؟
	Aerated drinks زیادہ تو نہیں پیتو؟
	آوانرنے rest اپون چھون۔ بولو اما۔ وات کرو اما زیادہ سی زیادہ آوانرنو استعمال تھائی چھ۔ یر جانو چھون؟



# ساتھ ملي ٺي پڙھو

## chorus

دعوة ني مجلس ما مؤمنين ذاكرين سگلا ايڪ ساٿھ ملي ٺي پڙھي ، سگلا نواوانرايڪ بيجا سي ملوؤ لائزم چھي۔ تاڪر۔ ير مثل آوانر ما خوبو اوے۔ سامعين ٺي لذة اوے۔ اگي پيچھي نر ٿھائي تر نو خاص خيال رھي۔

امثل عمل ڪرو واسطے۔ ذاكرين ايس ما اتفاق پيدا ڪرے سگلا ناواوانر و نا نغمت انے مقامات ايڪ بيجا ساٿھ مناسب اوتا هوئي۔ ايڪ مولی ني خدمت ايڪ ساٿھ ملي ٺي ڪرواني چھي ايم دل ما اعتقاد جماوے۔ الگ الگ ٿھاوا سي سگلا ني قوت ضائع ٿھي جائي چھي۔ ايڪ ساٿھ ٿھاسو۔ تو اوانر ني وه قوت نو محصول رھسي۔ جر سي مقصود گھنو اساني سي حاصل ٿھي جاسے۔ ذاكرين نو مقصود مؤمن نا انڪھ ماسي انسونڪالو و چھي۔ جر تصورات چھي تر ٺي دل لگ پھنچاؤ و چھي۔

دعوة ني مجلس ما ولي النعمة ني خدمت چھي۔ اهما کوئي فرق نر پڙھي جائي بلڪه کمال حاصل

ٿھائي۔



تمام	Check List - پڑھو۔
	میں کوئی نا ساتھ پڑھون چھون تو بیوے نو آوانرایک ساتھ اچھولاگے چھے؟
	میں ساتھ پڑھون تو میں ماری ذات نے علحدہ تونتهی سمجھتو؟
	اگر مایک ماراسی دورھوئی تو خاموش رہون چھون یا اہستر پڑھون چھون؟
	اگر منے ذکر حسین نو موقع نرملے۔ انے مرثیہ پڑھاتاھوئی تروقت میں اھنا ساتھ لھاؤ چھون؟
	میں بیجا ذاکرین ساتھ نغمات انے مقامات ملاوی سکون چھون؟





# آوانرني machinery

ذهن صاف هوئي ، بدن ما کوئي بهي شاکلة نو tension نر هوئي - پيشاني پرسل نر هوئي - جابر اما tension نر هوئي ، shoulders ما tension نر هوئي - کيم که آوانر پورا جسم ماسي نکلے چھے - پورا جسم اھنو machinery چھے - کوئي ايک جگہ ما تھوروسو بهي فرق هے تو آوانر پر فرق پڑھے -

صحيح مريتے سانس لے - آوانر نو support انسان نا diaphragm سي چھے - انسان سانس لے چھے تو lungs نا نيچے اھنو diaphragm کام کرے چھے - صحيح طور سي diaphragm نو support انسان نا سانس مالياو ما انے نکالو ما هے - تو آوانر بهي supported انے قوي نکلے - جيم بعض اداء کرے چھے - که اندر پيٹ ماسي نکلے - انے يره مثل نو آوانر دل سي نکليلا آوانر جيم پهچائے چھے - ايم نھيس هوئي تو گلا ماسي پڑھے چھے - ايم سننار کھے - انے بعض وقت برابر سانس پيٹ ماسي نر ليو نا سبب پڑھنار نا گلا پر زياده وزن نا کھي دے چھے جر نا سبب اھنا vocal chords ما بعض وقت گھنو مھوٹو نقصان تھئي جائی چھے -



# رياضات

پہلي رياضة صحيح سنواسي ٿهائي ڇهه۔ پہلے جتنوبنے زياده صحيح سنو۔ حسين امام ني ذکر۔ نوحه انے عويل اهنا داعي سيدنا محمد برهان الدين طع ني مثل کوئي نتھي ڪري سڪنو۔

خاص چيزونوخيال راکهه

- رياضة پہلا کان سي شروع ٿهائي۔ صحيح سنو۔ مولی نو آوانر سنو
- جسم ني کامل صحتہ سي آوانر ني صحتہ ڇهه۔ ترسي پورا جسم ني رياضة ڪروي ضروري ڇهه

اگر آوانر نے مشفق ڪروو ڇهه تو۔ تو مولی نا آوانر نے زياده سي زياده سنه۔ یر آوانر ما دردنے جانے۔ انے یر مبارڪ آوانر اهنا کان ما گونجتو هوئي انے۔ نتیجہ یر ذاڪر نا آوانر ما مولی نا آوانر ني برڪتہ نو اثر معلوم ٿهائي۔ مولی نو آوانر سنننا ۽ چلا جائی۔ یر آوانر غور سي سنه، دل ما یر آوانر نا دردانے الم ني تصویر چترے۔ عقیدہ مضبوط ڪري نے مولی نا چهره مبارڪتہ ما حسين امام ني صورتہ ديکھے۔ انے صدق النية سي۔ توسل لئي نے ذکر شروع ڪرے انے عند الله دعاء ڪر تو جائی ڪر میں مارا مولی نا بيان ني خدمتہ نوحق اداء ڪري سڪون۔

جسم انے آوانر ني بيچي exercises ڇهه تر تمام ڪرے۔ تیرتا سيکھے۔ صحيح سانس ليتا سيکھے۔ حروف المد ني تمرین ڪرے۔

## ذاكرين نه ما امل پانچ physical exercises كروي لانرم رهسه -

- تمام ذاكرين swimming كرو انوشروع كره (سباحه) trainer پاسه سيكهه  
كم انركم پچيس length سگلا ارام سي كري سكهه ير محصول هوئي
- Stretching exercises سگلا كره جر سبب جسم ناكوئي عضو ما بهي كوئي  
tension ندرهه - انه اعضاء اپنا آوانرني خدمه كره - وقت پر اعضاء آوانر نه كام  
اوه تر واسطه هميشه تانر انه تيار رهه
- سانس ني exercises كره - پيٹ ماسي سانس ليتا برابر سيكهه - انه ير مثل  
سانس لئي نه هر آوانر نكاله
- Vowels ني exercises كره - پيٹ ماسي سانس باهر نكالي نه "ها"  
"هي" انه "هو" تر بعد "آ" "اي" انه "او" ني تمرين كره - هميشه دهيان رهه كه  
آوانر پيٹ ماسي نكلي رهيو چهه
- Humming exercises كره

تمام	مرياضات - Check List
	ميس swimming كرون چهونز؟
	stretching exercises كرون چهونز؟
	سانس ني exercises كرون چهونز؟
	Vowels ني exercises كرون چهونز؟
	Humming ني exercises كرون چهونز؟



# صفاء النية في خدمة الذكر

حسين امام ني مجلس اهدا داعي ني مجلس چھ

مجلس امام حسين ني چھ۔ يہ مجلس ما

اشاہ ديس صدر چھ ترسي يہ مجلس  
سيد المجالس چھ

يہ مجلس ما خدمتہ نوموقع ملے چھ  
يہ اپني سعادت چھ ، ذکر حسين ني  
امانہ حسين ناداعي ني چھ اپنے يہ  
ذکر کرواني مرزا تھائي تو اپنا نصيب  
ني بلندي چھ

ادعوتہ ني مجلس ني عالي قدر چھ

بصيرتہ نے ليچے تو اھني قدر ما  
جراھا چھ خوبي تريجا ما انتھي

حرم ما مدينہ ما انتھي مصر ما  
يہ مجلس نا يارو صدر شاہ ديس چھ  
يہ ڈالي ملے چھ وہ ابداعي تھر ما

اھني مجلس ما ذاكر حسين ني خدمتہ يہ چھ کہ مولی جہر غم کراوے چھ ، کراوے چھ  
اھنو يہ جواب دے۔ يہر غم انے بکاء نا جواب نے حضرتہ امامية ما پيش کرے



نية صالحه نو تطبيق عملي

هر مجلس نا شروع ما ندر المقام اعمانے

نية بلند راکھے

خدمة اداء کرو اما همیشه استعانة مولی سی کرے

ا مجلس اپنا فن نے اظہار کروا نو platform نہ سمجھے

بلکہ یہ خدمت نو عظیم مقام چھے یہ همیشه دل نے یاد دلاوتا رہے

کوئی مارا او انر نی محمدہ کرے ایم تمنی نہ راکھے

همیشه صحیح سونچوانی ۛ عاده هوئی

بسم الله الرحمن الرحيم

## فذكر ان نفعت الذكرى

الداعي الاجل العلامة النحرير سيدنا ومولانا ابو القائد جوهر محمد برهان الدين طع. كرم انے احسان فرماوي نے ذاكرين نے۔ العشرة المباركة ني وعظ ما پڑھواني مرزا فضل فرماوے چھے ، ذكر حسين ني خدمة کرووايك عظيم شرف چھے۔ انے گھني مھوئي ذمہ داري چھے ، سبب كره تمام مؤمنين نا عاطفہ نے مولانا المنعم طع ني حضرة عالية ما كلام نا ذريعة سي جواب دئي نے پھنچاوے چھے

يرواسطے اہبہ انے استعداد واجب چھے ضروري چھے ، ذكر حسين كروا خاطر ہر ناحیہ سي علما وفنا برابر تيار تھاوو لانرم چھے تاكے يہ خدمتہ اداء كري سڪے۔ جس سبب حضور اعلى طع ني مرضی حاصل تھائي

العشرة المباركة ما خاصة ذاكرين ني اهم خدمة هوئي چھے۔ ذاكرين۔ الداعي الاجل سيدنا محمد برهان الدين طع ني نظرات انے توفيق سي مؤمنين نا درميان ماتم انے بکاء نا جوش ما معاونتہ کرے چھے ، يہ نظرات ني تلقي واسطے ذاكر حسين نے امثل اہبہ کروو لانرم چھے



الداعي الاجل سيدنا طاهر سيف الدين رضوان الله عليه فرماوے چھے۔ "طول الزمان بکائي" زمان نادرا لگ مارو رو چھے۔ اج اپنا منصوص الداعي الاجل سيدنا محمد برهان الدين طع زمان نادرا لگ حسين پروئي رهيا چھے رلاوي رهيا چھے يربكاء ني فلسفة پر گناھوني مغفرة کراوي رهيا چھے۔ يرفلسفة عظيمة ني تلقي کرتا هوذا کر حسين داعي الزمان پرفداء تهائي۔ خدا تعالی امام حسين ع انا بکاء ني حرمة سي اپني عمر شريف نے قيامة نادرا لگ دراز کر جو ،

ذاکر حسين نو اوانرايمان نو اوانر چھے۔ محبة نو اوانر چھے۔

● مولانا الإمام جعفر الصادق ص ع فرماوے چھے کہ: "الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان" ، ایمان - زبان سي اداء کروو ، دل سي سچاوانے ارکان سي عمل کروو چھے ، اولياء الله ع اني ذکرانے مدح اتينے معنی نے جمع کرے چھے .

● مولانا الإمام احمد المستور ص ع فرماوے چھے کہ: هرذی حیاة۔ زندهة شخص۔ جہ اصوات (آواز) نکالے چھے ، تر بے طرح ناھوئي چھے ، ايک۔ جہ ما کوئي معنی اداء نتهي تهاتي ، انے ايک جہ حروف انے الفاظ نا ذريعة سي اداء تهائي چھے۔ يرفالفاظ سي جملة وبنے چھے ، انے انسان يرفجملہ سي اھنا دل ما جہ معاني چھے اھنے اداء کرے چھے .

آواز سونر چھے ۔ کرے جسم ايک بيچاسي ٹکرائي چھے تو هواء ما تموج (Waves) پيدا تهائي چھے ، جيم پاني ما کوئي پٹھر نا کھے تو تموج پيدا تهائي چھے . انسان نے





خدا تعالیٰ یرقوة سامعة (سُنوایی قوۃ) عطاء کیدی چھے، یرقوة۔ کان ناذریعة سی اتموج نے احساس کرے چھے، انے عقل نی طرف اهنے پہنچاوے چھے۔

هر صوت واسطے ایک اوانر واسطے ایک مخصوص نغمة چھے، انے روحانی ہیئۃ چھے، جہر ناسب بیجا اصوات سی اوانر وسی الگ تھائی چھے، تویر ۛ مثل ایمان ناصوت واسطے ایک مخصوص نغمة انے روحانی ہیئۃ چھے،

الداعي الاجل سيدنا طاهر سيف الدين <sup>رض</sup> فرماوے چھے:

بمدحه غردت طیور الجنان منها بغصن بان

ائۃ طاہرین <sup>ص</sup> انے دعاۃ مطلقین <sup>رض</sup> نی مدح سی جنۃ ناپرندہ وُغنے کرے چھے، جہر ما عالم روحانی نانعمات چھے، یرنعمات روحانیۃ سی لذۃ لیو وایک شاکلۃ سی ایمان نی معنی چھے، جہر ما دل، زربان، انے کان واسطے عبادۃ نوایک منحی چھے۔

ذاکر حسین اھوی دھب سی اداء کرے کہ داعی الزمان نی مجلس ما جہر فرشتاؤ حاضر چھے۔ اهنے بھي یر ”صوت“ نی طرف اشتیاق تھائی۔ انے داعی الزمان اهنو اوانر سنی لے یر ۛ اهنو“ حسب ” چھے۔



# الصدق في الكلام

مؤمن بولے تو سچ بولے - جھوٹ بولو - مؤمن ني خصله ماسي هرگز ننهي - آوانرني نعمة یر  
واسطے خدا تعالیٰ یراپي چھے کہ دل ني وات جبرناسي محبة هوئي اهناساھہ share کرے۔ دل ما  
نر هوئي یروات کرے تو آوانرني حکمة نا خلاف کیدو۔

لسان الدعوة پڑھواني انے لکھواني عادة تمام ذاکرين نے هووي جوئي یرواسطے دائرة  
التربية والتعليم ني جبرمدارس مانصاب چھے ، اهناتحت ء کلاس تک سگلانے اشنائي  
هوئي ، اپني زبان دعوة ني زبان چھے۔ الداعي الاجل سيدنا محمد برهان الدين طع۔ دعوة ني  
زبان ماوات کرے چھے۔ وعظ فرماوے چھے۔ یرزبان ني معرفة هسے تو دعوة نامفاهيم نے سچائي  
سي اداء کري سکسو۔ والا سمجھ نرپڑتي هوئي انے هندي يا انگريزي زبان ني لپي وانچي جاؤ  
توفقط سطح پروات مرهي جائی۔ دل یرکئي حاصل کیدو بهي نهیں انے کوئي نے کني اپو بهي نهیں  
ذکری اول ، ذکری ثاني ، چالیس مجلس ني کتاب انے صوت الايمان ما جبر سگلا کلام  
چھے اهنابالتمام مشکل الفاظ ني معنی اپنے خبر هوئي۔

الاقبسات النورانية سگلانا تردیک هوئي ، یر مفاهيم مد نظر را کهي نے



## سگلا جوابوني تمرين ڪرے۔

عربي ڪلام ني بهي سگلانے تمرين برابر هوئي ياسيد الشهداء ، يا امام الحق مولانا الحسين ، سيد علي محي الدين قسیر جبر امام حسين ع انا مراثي لکھا چھے ، یر سگلا برابر پڙهي سگنا هوئي ، انو مفهوم سگلا جانے۔ انے یر واسطے۔ العامل الحاضر سي يا انهي مزا سي گام ما ماهرين نازديك سي مدد لے۔

نصائح ني معنی یر سگلانے برابر خبر هوئي خاصة اهما الفاظ کي طرح اداء تھائي چھے یر بالضبط خبر هوئي .

حق انے صدق ني معرفة واسطے ال محمد نو علم حاصل کرو و ضروري چھے ، مؤمن ال محمد نا علم پڙهي درجات ما بلند تھائي چھے ، تودل ما صفاء خلوص ني برکة زيادہ نے زيادہ تھائي چھے ، ذاڪرين۔ یر حق انے صدق ني طرف قصد ڪر تا هوا۔ ال محمد نو علم پڙھے۔ عمال البلاد نازديك اسباق ني مزالے ، فقه ، اخبار ، حکمة نا علوم پڙھے۔ الاقتباسات النورانية سي العامل الحاضر نازديك يا انهي مزا سي استفادة ڪرے ، الجامعة السيفية نامستفدين نا امتحانات ما شريك تھائي ، اسگلا امور سي ، ولي الله ني نظرات ني برکة سي۔ ذاڪرين نا ڪلام ما صدق انے حق نو حصول تھائي انشاء الله تعالى۔



تمام	الصدق في الكلام في check list
	منے لسان الدعوة بولتا برابر اورے چھے؟
	منے لسان الدعوة پڑھتا برابر اورے چھے؟
	منے عربی زبان پڑھتا برابر اورے چھے؟
	میں ہمیشہ سچی وات کروں چھوں؟
	ما را مرثیہ نی کتاب ما سگلا کلام لسان الدعوة ما لکھیلا چھے؟
	میں الاقتباسات النورانیة سی برکتہ لوو چھوں؟
	الجامعة السیفیة نا مستفدین نا امتحان ما شامل تھا وانی عرض کیدی چھے؟



# مايڪ سي ڪام ليوو

مايڪ سي دوستي ڪري لو۔ ڀر ڪيم چلے چھے تر جاني لو۔ ڀر سنارنے ڪيم سناتو هے۔  
ٽيم هميشه دهيان ڪرو۔


مايڪ نے ڪم نر ڪم بے سي تين inch منھ سي دور پڪروي۔ مائيڪ نا اوڀر نا حصہ پر  
هرگز هاتھ نا موڪو۔ اھنے ڪھلور هو اڏيو۔ اھنے بند ڪري ڏسو توڀر توڀر۔ اوانر ڪم  
اپاري سڪسے

سگلا ملي نے پڙھے چھے توڀر ڏکو ڪر تمارا هاتھ ما مائيڪ هوئي تو تمارا اڪيلا نوا وانر فقط نر  
سنائي بلڪه سگلا لوگو نومي نے chorus effect اوے۔ سگلا chorus ما  
پڙهتا هوئي تو مائيڪ هجي دور ڪرو ما اوے تا ڪر سگلا نوا وانر اها شامل تھائي۔

ڏاڪر حسين جہر جگه ما پڙھے چھے پھلا اھني طول عرض انے area جانے۔ ڀر مثل ني  
area ما ڪنوا ونچوا وانر اچھو لاگسے۔ سنارنے پسند اوے۔ اھني ذھن ما تقدير ڪرے  
تر بعد مائيڪ سي خدمت لے۔ ايم نھیں ڪر گھني چھوئي جگه چھے انے مائيڪ ما  
گھنور وري سي بولي رھيا چھے۔



مايك سي خدمت لے۔ مگر اہنا محتاج نہ تھئی جائی۔ کوئی وقت mic کام نہ کرے تو  
ذاکرین صوت جلی سی پڑھی سکے ایم قوت پیدا کرے۔



تمام	مايك - Check List
	منے mike پکڑھتا اوے چھے؟
	میں mike نے منہ پر لگاوی نے پڑھون چھون؟
	بیسرا لوگو نے کیم سنائی رہیو چھے یر نومنے انداز چھے؟





## یا قوم قولوا ثم قولوا یا حسین احب صوت نحو سمعی یا حسین

الداعي الأجل الفاطمي سيدنا محمد برهان الدين طول الله عمره  
الشريف ني مرزاسي عشرة مباركة ني مجالس ما۔ حسين امام صلوات الله  
عليه ني ذكرى کرنا رمؤمنين۔ مايلي امور نو خيال راکھے۔ تمرين کرے۔  
اهبه کرے۔

۱۔ خدا تعالیٰ قران مجيد ما فرماے چھے کہ "فاذکروني اذکرکم"۔  
يعني تمیں ماري ذکر کرو۔ میں تماری ذکر کریس۔ مؤمن ذا کرنے ا  
عظیم شرف حاصل چھے۔ یہ مولانا محمد برهان الدين <sup>طع</sup> ني ذکر کرے چھے  
۔ مولى کرم انے احسان فرماوي نے اهنے یاد کرے چھے۔ اہنا حق ما دعاء  
فرماوے چھے



۲. ال محمد ص ع نی ذکر کروا پیشتر حوض کوثر نا پانی سی کلی کری  
نے ذکر کرے۔ ذاکرین نامنه ماتمباکوانے یر مثل نی حرام چیزو هرگز نه  
هوئي

۳. مولی جبر کلمات فرماوے چھے ذاکرین اھنی ذکر ی یر کلمات سی  
اقتباس کری نے کرے

۴. ہر ایک ذاکر نا نزدیک اقتباسات هوواج جوئیے۔ پورا ورس اھنی  
تلاوة کرے۔

۵. اگر کوئی کلام لکھے چھے۔ تو یر اقتباسات ماسی بیانونی تلقی کری  
نے لکھے سادات کرام نی خدمتہ ما عرض کرے۔ check کراوے۔ رزرائی  
نے تلاوة کرے۔

۶. اگر کلام نا انتخاب نی تیاری کرے چھے۔ تو اقتباسات ما دیکھے۔ کہ  
مولی سونر بیان فرماوے چھے۔ یر مثل نا کلام نکالی نے اھنا پر تمرین کرے

۷. صحیح پڑھو واسطے صحیح سنو و گھنو ضروری چھے۔ حسین  
امام نی ذکر۔ نوح انے عویل اھنا داعی سیدنا محمد برهان الدین ط ع۔ نی  
مثل کوئی نتھی کری سکتو۔ ذاکر۔ نے اھنا اوانر نے مثقف کروا چھے۔ تو  
مولی نا اوانر نے زیادہ سی زیادہ سنے۔ یر اوانر ما درد۔ نے جانے۔ انے یر





مبارك اوانراهنان کان ماگونجتو هوئي انے۔ نتیجہ یر ذاکرنا اوانر ما تر مولی  
نا اوانر نی برکات منعکسه تھائی۔ مولی نواوانر سنتاج چلا جائی  
۸. یر اوانر غور سی سنی نے دل ما یر اوانر نا درد انے الم نی تصویر  
چتاری نے۔ عقیدہ مضبوط کری نے مولی نا چہرہ مبارکہ ما حسین امام  
نی صورت دیکھی نے صدق النیہ سی۔ توسل لئی نے ذاکر اہنو منہ کھولے انے  
عند اللہ دعاء کرتو جائی کہ میں ما رامولی نا بیان نی خدمتہ نوحق اداء  
کری سکون۔

۹. ذاکر حسین ص ۷۷۔ ہر کلام برابر سمجھی نے پڑھے۔ جہ وقت  
حضور اعلیٰ نی مجلس ما جواب دے تو۔ برابر بیان نا متعلق ہوئی۔ یر  
جواب دے۔

۱۰. اگر مولی تھورو وقفہ فرماوے چھے۔ تروقت کوئی نے ایم لائق نتھی  
کہ فوراً مرثیہ اوتھاوی لے۔ اہنا سی مؤمنین نو۔ جہ۔ حضور جہ بیان  
فرماوے چھے یا غم کراوے چھے تر نو link توتی جائی چھے۔ لوگو نو دھیان  
غم نا بیان سی مرثیہ نی طرف ولی جائی چھے

۱۱. ملی نے پڑھوانا فرمان تھائی تو سگلانے ملی نے پڑھوولانم چھے۔  
فرمان چھے۔ جونہ پڑھے توبے فرمانی تھی جائی اہنو خیال مراکھے



- ۱۲ . موقع نہ ملے تو مولیٰ نابیان ناوسط مانہ پڑھے۔ کذلک وارم وارم وارم  
مرثیہ اوٹھاوانی کوشش نہ کرے ایم کرواسی بیان ما خلل واقع تھائی چھے ،  
اقصی الغرض سونہ چھے۔ کہ حضور اعلیٰ <sup>ط</sup>ع نابیان نی خدمتہ کروی۔
- ۱۳ . مولیٰ شہادہ پڑھے چھے تر وقت فقط ماتم تھائی مرثیہ اوٹھاوی نے  
ماتم نا جوش نے تورے نہیں۔ یر امر نو خیال مراکھے
- ۱۴ . لطافت نو بیان ہوئی تو تر وقت جواب دیوانو موقع ہو تو انتھی
- ۱۵ . مؤمن ذاکر حسین نے۔ ایک دن عشرہ ما مولیٰ نا سامنے بیتھوو  
نصیب تھئی جائی یر ذاکرین نی گنتی ما شامل تھئی گیا
- ۱۶ . ذاکرین اھوی خوبی سی خدمتہ کرے۔ کہ ماتم ہوئی تو جاریح  
رھے۔ بکاء ہوئی تو جاریح رھے۔
- ۱۷ . تلفظ صحیح اداء کرے نہیں تو معنی ما فرق پڑھی جائی چھے۔  
انے جرغم کراوانو مقصد چھے تر ضائع تھئی جائی
- ۱۸ . جر وقت حضرہ امامیہ ما پڑھوا نو موقع ملے تو خضوع خشوع  
ہوئی کوئی گھمند نہ ہوئی پارتی نو Tipper اوٹھاوی لے پچھی اوٹھاوے تا  
کہ الگ بھی نہ تھوائی انے ادب نو خیال رھے



- ۱۹ . مولی یاسید الشہداء نا مرثیہ کیم پڑھے چھے تیم پڑھوو مولی غم  
کیم کرے چھے تیم غم کرو۔ مولی پڑھے تروقت غورسی سنے
- ۲۰ . مولانا طع نا بیان ما اپ نامبارک اوانرما محوٹھئی جائی۔ انے  
حاضر ذہن مراکھی خدمتہ ادب نا تقاضہ پر اداء کرے۔ مولی نی مجلس  
مولی نو بیان مولی نو غم۔ مولی نا مؤمنین۔ نی خدمتہ۔ اہنی اقصی  
الغرض چھے۔